

# العارفین

## جمادیٰ نسبیہ میں اللہ



ترتیب و تالیف: سید امیر خان نیازی سروری قادری

شعبہ نشر و اشاعت:

عالمی تنظیم العارفین، دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہوؒ

سلسلہ کتاب

۱۶۲

رضا اکیڈمی لاہور سجاد رضا

مکتبہ روضہ چاندنی بازار لاہور ۱۹۹۹

## ﴿جہاد فی سبیل اللہ﴾

فرمانِ حق تعالیٰ ہے :- تَوُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ط ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (پ ۲۸ الصف - ۱۱) ترجمہ ”ایمان رکھو اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو تو“

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم اُس کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے کا دیا گیا ہے کیوں کہ جو نہی انسان اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے قرب کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ظاہر و باطن کی تمام متقی قوتیں اُسے اس ارادہ سے باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیتی ہیں اور اس شدت سے اُسے راہِ حق سے روکتی ہیں کہ انسان اگر اپنی ساری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں اُن کے توڑ پر صرف نہ کر دے تو وہ اپنے مقصدِ حیات میں ناکام ہو جائے۔

جہاد کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے جس کے معنی محنت، مشقت اور کوشش کے ہیں لیکن دینی اصطلاح میں ”جہاد“ دینِ حق کی سر بلندی اور اُس کی حفاظت کیلئے ہر قسم کی محنت، کوشش، قربانی اور ایثار کرنے اور اپنی تمام جسمانی، مالی، فکری اور دماغی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے، اُس کے لئے اپنی، اپنے اقرباء اور اہل و عیال کی جان تک کو قربان کر دینے، دینِ حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے، اور اُن کی جارحیت کو روکنے اور اُن سے جنگ کرنے یا جنگ کیلئے تیار رہنے کو کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ذمہ داری بخشی ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ کی حکومت قائم کریں اور اللہ کے مقرر کردہ عدل و انصاف اور امن و سلامتی پر مبنی قوانینِ الہی نافذ کریں تاکہ اولادِ آدمِ مکمل دل جمعی و یکسوئی اور مکمل آزادی کے ساتھ قربِ الہی کے حصول میں کوشاں رہ سکے۔ رضائے الہی کے حصول کی خاطر مومنوں کا ایک مخصوص ضابطہٴ حیات ہے، مخصوص لائحہٴ عمل ہے اور اُن کا منفرد سیاسی نظام ہے، منفرد طرزِ حکمرانی ہے اور منفرد طرزِ زندگی ہے جو سراسر قوانینِ الہی کے تابع ہے لیکن شیطانی قوتیں ہمہ وقت عدل و انصاف اور امن و سلامتی کے اس مشن کو سبوتاژ کرنے پر تکی رہتی ہیں اس لئے ان شیطانی عوامل سے نبرد آزما ہونے کے لئے مومنین کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر اس مقصد کے لیے تمہیں تلوار اٹھانی پڑے تو تلوار اٹھانے میں دریغ مت کرو بلکہ قتال فی سبیل اللہ کر کے شرکی قوتوں کو نیست و نابود کر دو۔

فرمانِ حق تعالیٰ ہے :- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَنْتُمْ كَافِرِينَ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ۝ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ ۚ

فَاِنْ نُّتِهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلٰى الظَّالِمِيْنَ 0 (پ ۲ البقرہ ۱۹۰ تا ۱۹۳) ترجمہ ”اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں نکال دو اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور ان کا فتنہ و فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں اور اگر وہ خود تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو کہ کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ بازر ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ مٹنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک اللہ کی پرستش ہونے لگے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔“

ان آیات مبارکہ میں مومنین کو وضاحت سے فرمادیا گیا ہے کہ تلوار صرف اللہ کی راہ میں اٹھائی جائے، اپنی کسی ذاتی غرض اور ذاتی مفاد کی خاطر قتال نہ کیا جائے۔ ذاتی مفاد میں قتال کرنا زیادتی اور ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا۔ قتال اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہو تو امن کی ضمانت ہے وگرنہ بُرا ہے، اس لئے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو برائی اور فساد کو پُر امن طریقے سے دفع کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر برائی اور فساد تمہاری گردنوں تک آئیے تو پھر کسی قسم کی رعایت برتتے بغیر پوری شد و مد سے اُس سے ٹکرا جاؤ اور اُس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے۔ ہاں اگر فساد کی تم سے نہ لڑیں تو تم بھی نہ لڑو۔ روئے زمین پر جہاں بھی فساد برپا ہو جائے، ظلم و استبداد کا راج ہو جائے، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جائے، برائیوں کو فروغ حاصل ہو جائے، لوگوں کو راہِ حق پر چلنے سے روک دیا جائے، اُن کی آزادی سلب کر لی جائے، پُر امن لوگوں کا جینا حرام کر دیا جائے اور اُن کو گھربار چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو تم پر خاموش تماشائی بنے رہنا حرام ہے، آگے بڑھ کر اس ظلم و ناانصافی کو روک دو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے :- ”تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اُسے زور بازو سے بدل دے۔ اگر اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے احتجاج کرے اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو دل سے اُسے بُرا جانے لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

فرمانِ حق تعالیٰ ہے :- وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يُغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا 0 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا 0 (پ ۵ النساء ۷۴، ۷۵) ترجمہ ”اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آجائے تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اُسے اجرِ عظیم عطا فرمائیں گے۔ اے مومنین! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں غلبہ دین کے لئے اور ان بے بس مظلوم و مقبور مردوں، عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لئے جنگ نہیں کرتے جو ظلم و ستم سے تنگ آکر پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اُس بستنی سے نکال لے جہاں کے وڈیرے لوگ ظالم ہیں اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرمادے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔“

گویا مومنوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اولادِ آدم کو بُرائی سے بچائیں اور اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے زمین کے ہر ہر خطہ پر قانونِ الہی کو نافذ کریں اور لوگوں کو صراطِ مستقیم پر چلائیں تاکہ نسلِ انسانی عذابِ الہی سے بچی رہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ عام لوگوں پر خاص لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اُس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اُن میں یہ عیب پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی نظروں سے بُرے اعمال ہوتے ہوئے دیکھیں مگر انہیں روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں، جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ "جماد کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات بے شمار ہیں۔ اُن میں سے چند ارشادات یہاں نقل کئے جاتے ہیں تاکہ جماد کی اہمیت مزید واضح ہو جائے:

(۱) "جو شخص اس حالت میں مرا کہ اُس کے دل میں جماد کی خواہش ہی نہیں تھی تو وہ منافقت کی موت مرا" (مسلم)

(۲) میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں"

(۳) حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کو دو قسم کے قطروں اور دو قسم کے نشانات سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو خوفِ خدا کے باعث آنکھ سے گرے اور دوسرا وہ قطرہ خون جو دورانِ جمادِ مجاہد کے جسم سے گرے۔ اور نشانات میں سے ایک وہ نشان جو دورانِ جمادِ مجاہد کے جسم پر زخم لگنے سے بنتا ہے اور دوسرا وہ نشان جو فرائض کی بجا آوری کے باعث عابد کے جسم پر لگتا ہے جیسے کہ نشانِ سجدہ" (ترمذی)

(۴) حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: "جو شخص جمادِ نبیل اللہ کی نیت سے گھر سے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے یا گھوڑے یا اونٹ کے پاؤں تلے پکلا جائے یا اُسے سانپ ڈس لے یا کسی اور حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے اور یقیناً جنت میں داخل ہوگا" (ابوداؤد)

(۵) ابنِ عابد کا بیان ہے۔ "حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک شخص کی نمازِ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا آپ اس شخص کی نمازِ جنازہ نہ پڑھائیں کہ یہ فاسق تھا۔ آپ نے دوسرے صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اسے اسلام کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی بولے: ہاں یا رسول اللہ ﷺ اس نے ایک رات اللہ کی راہ میں پہرہ دیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے اُس کی نمازِ جنازہ پڑھادی اور اُس کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہوئے فرمایا: "تیرے ساتھیوں کا خیال ہے کہ تو دوزخی ہے لیکن میں شہادت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے" (شہبہ)

## ﴿جماد کی قسمیں﴾

انسان کو راہِ حق سے روکنے کیلئے کئی قسم کی باطل توئیں پائی جاتی ہیں اور ہر منفی قوت

سے نپٹنے کے طریقے مختلف ہیں اس لئے جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ الگ الگ بیان کیا جاتا ہے :-

1- نفس کے خلاف جہاد:- سب سے اعلیٰ جہاد انسان کا اپنے نفس اور اس کی خواہشات کے خلاف جہاد ہے۔ اس جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میدان جنگ سے لوٹنے والے مجاہدین سے فرمایا :- ”تمہارا آنا مبارک! تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، سب سے بڑا جہاد اپنی نفسانی خواہشات پر غلبہ پانا ہے۔“ اپنے جسم و جان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگانا، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کا مقابلہ کرنا، دل کو ماسویٰ اللہ کے خیال سے پاک کر کے یاد الہی میں لگانا، خصائلِ رذیلہ از قسم لالچ، ہوس، طمع، غرور، تکبر، جھوٹ، فریب، مکر، بغض، کینہ، حسد، نافرمانی، بے ادبی اور گستاخی وغیرہ سے خود کو بچانا اور تزکیہٴ نفس، تصفیہٴ قلب اور تجلیہٴ روح کرنا یہ سب جہاد بالنفس ہے۔ اور اس جہاد کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :-

”المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ (مسلم) ترجمہ ”مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ”بہترین جہاد یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات سے لڑو۔“ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا :- ”تم لوگ پہلوان کسے کہتے ہو؟“ صحابہ کرام نے عرض کی ”جس کو لوگ کشتی میں پھنسا دینے کیسے کہتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”نہیں۔ پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔“ قتال یا جہاد بالسيف یعنی مسلح جہاد سے پہلے نفس کے خلاف جہاد کرنا بے حد ضروری ہے ورنہ مسلح جہاد سے وہ نتائج کبھی بھی برآمد نہ ہو سکیں گے جن کے لئے مسلح جہاد کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سب سے پہلے نفس کے خلاف جہاد کر لیا اور جب وہ نفس کے خلاف جہاد میں کامیاب ہو چکے تو پھر انہیں تلوار سے جہاد کی اجازت دی کیونکہ نفس کے خلاف جہاد کیے بغیر اگر جہاد بالسيف کیا جائے تو بسا اوقات بڑے خسارے اور المیے رونما ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جنگِ احد کے واقعہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میدانِ جنگ کا معائنہ کیا اور ایک پہاڑی دڑے کو اپنے لئے خطرناک قرار دیتے ہوئے وہاں پچاس تیر اندازوں کو یہ فرما کر متعین کیا کہ ”تم لوگوں نے اس دڑے کی حفاظت کرنی ہے، ادھر سے کسی کو نہ آنے دینا، میدانِ جنگ کے حالات خواہ کیسے بھی ہوں تم نے میری اجازت اور میرے حکم کے بغیر اس دڑے کو خالی نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی معرکہ میں کافروں کو شکست ہو گئی اور وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ جب میدانِ جنگ کافروں سے خالی ہو گیا تو مسلمان مالِ غنیمت سمیٹنے لگے۔ جب اس دڑے پر نگران تیر اندازوں نے دیکھا کہ کافر شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں اور دوسرے مجاہد مالِ غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی مالِ غنیمت کی طلب نے زور پکڑا اور وہ اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر مالِ غنیمت اکٹھا کرنے جا پہنچے۔ صرف چھ تیر انداز اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے۔ وہ مال

غنیمت کی طرف راغب نہ ہوئے کہ ان کے دل مستغنی تھے۔ اوہر دشمن کی نظر خالی دترے پر پڑی تو پلٹ کر اُس دترے کی طرف سے حملہ کر دیا اور ان چھ مورچہ بند تیر اندازوں کو شہید کر کے مالِ غنیمت سمیٹنے والے مسلمان مجاہدین پر جا پڑے اور جنگی نتیجہ الٹ ہو گیا۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی زخمی ہوئے۔ اس واقعہ سے یہ سبق نکلتا ہے کہ: (۱)۔ نبی کے حکم کی خلاف ورزی اور (۲)۔ جہادِ اکبر کے فقدان سے کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے؟ جو لوگ جہادِ اکبر سے سُرخرو ہو کر میدانِ جنگ میں بذریعہ تلوار جہاد کی طرف آتے ہیں وہ ایسی ہو شرباد استائیں رقم کرتے ہیں کہ ان کو سن کر عقلیں دنگ اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ ایران کے پایہ سلطنت مدائن پر جب مسلمان فوجیں حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں حملہ آور ہونے کو آئیں تو ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا وہ پل توڑ دیا جس سے گزر کر شہر آنا پڑتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حالات کا جائزہ لیا اور ایمان کی باطنی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے دریا سے مخاطب ہوئے: اے دریا ہمیں پہچان لے، ہم اللہ کے مجاہدین ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے نکلے ہیں، ہماری اپنی ذاتی غرض کوئی نہیں ہے۔ دشمن نے پل گرادیا ہے، ہم تیرے سینے پر سے گزر کر جائیں گے۔ خبردار! اگر کسی مجاہد کے گھوڑے کے سُم کو بھی نقصان پہنچا تو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو گا۔ اس کے بعد حملے کی ترتیب میں صف بندی کی اور حملے کا حکم دیتے ہوئے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور زمانے کی آنکھ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ متلاطم دریا کے سینے پر مومن مجاہدین کے گھوڑے اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح کہ پتھر ملی ہموار زمین پر دوڑ رہے ہوں اور ایرانی فوج یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر یہ الفاظ کہتے ہوئے بھاگ نکلی کہ ”دیو آگئے! دیو آگئے! اس طرح جب سلطنتِ ایران فتح ہو گئی اور شاہی محل سے مالِ غنیمت اکٹھا ہونے لگا تو ایک سپاہی شہنشاہِ ایران کا بہت ہی قیمتی موتیوں کا ایک ہار مٹھی میں دبائے آیا اور اپنے امیر کے پاس جمع کر دیا۔ امیر نے کہا کہ اے جوان اگر تو یہ ہار اپنی جیب میں رکھ لیتا تو تجھے کون دیکھنے والا تھا؟ تو خوب مال دار ہو جاتا۔ سپاہی نے جواب دیا کہ اے سردار! مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش ہے کہ میں طالبِ مولیٰ ہوں۔ مجھے مال و زر کی طلب نہیں ہے۔ آفرین ہے ایسے باطن آباد مجاہدین پر کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اور جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالمی تنظیم العارفین کے مجاہدین لگاتار تیرہ (۱۳) سال تک اصلاحی جماعت کے پلیٹ فارم سے جہادِ بانفس کر کے جہادِ بالسیف کے میدان میں اترے ہیں اس لیے بارگاہِ الہی میں ان کی یقینی کامیابی و سرخروئی کی امید کی جاسکتی ہے اور انشاء اللہ ان کی مساعی سے خطہ جموں و کشمیر و دیگر اسلامی ریاستیں بہت جلد آزادی سے ہمکنار ہو جائیں گی۔

نفس کے خلاف جہاد کو باطنی جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ باطنی جہاد کے بغیر قتالِ محض غارت گری اور بدمریت بن کر رہ جاتا ہے۔ حالیہ جہادِ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ باطنی جہاد کے فقدان نے مجاہدین کو دشمن کی شکست و پسپائی کے بعد ذاتی مفاد کی بھینٹ چڑھا کر ایک دوسرے سے ٹکرا دیا اور ایسی خانہ جنگی چھڑی کہ اب تک ختم ہونے میں نہیں آرہی۔

2- جان کے ذریعے جہاد:- جان کے ذریعے جہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہر قسم کی جسمانی تکلیف اٹھائی جائے حتیٰ کہ اگر جان دیے بغیر کامیابی حاصل نہ ہو رہی ہو تو جان دے دینے میں بھی تردد نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدین کے بارے میں فرماتا ہے:- "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَوَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ" (پ ۲ البقرہ ۱۵۴) اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں البتہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں "مزید فرمان حق تعالیٰ ہے:- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ط بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَقُّونَ" (پ ۴ آل عمران ۱۶۹) ترجمہ:- "جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے پروردگار کی طرف سے روزی دی جا رہی ہے۔" مزید فرمان الہی ہے:- وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ سِتُمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ تَحْشُرُونَ ۝ (پ ۴ آل عمران ۱۵۷-۱۵۸) ترجمہ:- "اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا دیکھے ہی مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن و دولت سے بہتر ہے اور اگر تم مر جاؤ یا مار دیئے جاؤ تو کیا ہوا؟ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قرب میں ہی تو واپس جاؤ گے ناں اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔"

3- مال کے ذریعے جہاد:- مال کے ذریعے جہاد اس طرح ہے کہ دین حق کی سر بلندی اور تبلیغ و اشاعت کے لئے اگر سرمائے اور مال کی ضرورت پڑے تو بے دریغ خرچ کیا جائے۔ علاوہ ازیں ہر شخص کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لے سکے۔ لیکن جہاد میں مالی اعانت کرنا ہر صاحب ثروت کے لیے آسان ہے، دوسرے جسمانی جہاد کی ضرورت ہر وقت پیش نہیں آتی لیکن مالی جہاد ہر وقت کیا جاسکتا ہے۔ مالی جہاد اس لئے بھی ضروری ہے کہ بسا اوقات مال کی محبت انسان کو راہ حق سے ہٹا کر تخیل بنا دیتی ہے اس لئے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے محل کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار مومنین کو اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے کہ اس طرح حُب دنیا کی پرکھ ہو جاتی ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:- "لَتَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ قَف وَاَنْفُسِكُمْ قَف وَاَنْفُسِكُمْ قَف وَاَنْفُسِكُمْ قَف" (پ ۴ آل عمران ۱۸۶) ترجمہ:- "بے شک ضرور ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں اور بے شک ضرور ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ بُرا سونو گے اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے"

جہاد بالمال سے جی چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے تنبیہ بھی کی ہے:- "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَيْسَ هُوَ شَرًّا لَهُمْ سَبْطَوْقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط" (پ ۴ آل عمران ۱۸۰) ترجمہ:- "اور جو لوگ محل کرتے ہیں اس چیز میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ



سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بُرا ہے، عنقریب وہ کہ جس میں انہوں نے مظل کیا تھا قیامت کے دن اُن کے گلے کا طوق بنے گا۔“

اس کے برعکس مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے حق میں خوشخبری بھی دی۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے: ”فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً“ (پ ۵ النساء ۹۵) ترجمہ: ”اللہ نے اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ پیشہ منے والوں سے بلند کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”جہاد کیلئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سات سو گنا ثواب لکھ دیا ہے“ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ: ”جو شخص جہاد کے لئے سامان فراہم کرتا ہے اور خود گھر میں قیام پذیر رہتا ہے اسے اس پر خرچ کئے ہوئے ہر درہم کے بدلے سات سو درہم کا ثواب ملے گا اور جو شخص خود جہاد کرتا ہے اور جہاد کے مصارف بھی برداشت کرتا ہے، اسے ہر درہم کے بدلے ستر ہزار درہم کا ثواب ملے گا۔“ (ابن ماجہ)

**4۔ علم و قلم کے ذریعے جہاد:-** دنیا میں تمام فتنہ و فساد جہالت کی پیداوار ہے اس لئے ہر پڑھے لکھے صاحبِ علم کا فرض ہے کہ وہ علم کی روشنی سے جہالت کی ظلمت مٹائے کیوں کہ جتنا امن اور سکون علمی دلیل مہیا کر سکتی ہے وہ اسلحے کی طاقت مہیا نہیں کر سکتی اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہادِ باعلم کو بڑا جہاد قرار دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: ”فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَا هِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا“ (پ ۱۹ الفرقان - ۵۲) ترجمہ ”محبوب ﷺ! آپ کافروں کا کمانہ مائیں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے جہادِ کبیر فرمائیں“

جہادِ باعلم یہ ہے کہ لوگوں کو علم اور معرفتِ حق تعالیٰ کے ذریعے اسلام کی طرف بلایا جائے، تبلیغ و دعوتِ دینِ ملکی طریق سے دی جائے۔ قرآن و سنت کے ذریعے دلوں کو نورِ اسلام سے منور کیا جائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حمایتِ حق اور نصرتِ دین کے لئے علم، عقل، فہم اور بصیرت حاصل کرے اور وہ تمام علوم حاصل کرے جو راہِ حق میں کام آسکتے ہوں اور ان علوم کو اشاعتِ حق اور مدافعتِ دین کے لئے استعمال کرے اور تحریر و تقریر کے ذریعے مقدر بھر جہالت کے خلاف جہاد کرے۔ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:- ”کافروں کے خلاف مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔“ (نسائی، ابو داؤد) زبان سے جہاد کی وضاحت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی! فرمانِ حق تعالیٰ ہے: ”أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط“ (پ ۱۳ النحل ۱۲۵) ترجمہ: ”اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے دعوت دو اور ان سے ایسے طریقے پر بحث و گفتگو کرو جو بہترین ہو۔“

**5۔ داخلی جہاد:-** اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کو داخلی جہاد کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً فحاشی و عریانی کے سدباب کے لئے، رشوت و ناجائز سفارش

کو ختم کرنے کے لیے، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے رجحان کو ختم کرنے کے لئے، ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے سدباب کے لئے اور ہر قسم کے استحصال کو روکنے کے لئے تدبیر اور کوشش کرنا داخلی جہاد ہے کیونکہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ بُرائیاں شہادتِ اسلام کی راہ میں سب سے خطرناک رکاوٹ ہے۔

**6۔ دفاعی جہاد:-** اسلام لانے والے مسلمانوں کو اگر کفار اسلام لانے کے جرم میں ستانا شروع کر دیں یا انہیں دھونس و دھاندلی کے ذریعے اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے لگیں یا انہیں گھربار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کرنے لگیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگی اقدام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے: "أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ" (پ ۱۷ الحج، ۳۹، ۴۰) ترجمہ:- "جن لوگوں سے کافر لڑتے ہیں انہیں جوابی جنگ کی اجازت ہے کیوں کہ ان پر کفار کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے حالانکہ انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا تھا، وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے" مزید فرمانِ الہی ہے: "الَّذِينَ كَفَرُوا قَاتِلُوهُمْ وَلَا يَحْسَبُوا الْحُرُوبَ أَلْوَنًا ۚ وَمَا أَغْنَاهُمْ عَنْهَا قُوَّتُهُمْ وَظُرُوبُهُمْ ۚ وَلَا يَحْسَبُوا أَنَّهُم مُّجِيبُونَ اللَّهَ ۚ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ" (پ ۱۰ التوبہ، ۱۳) ترجمہ:- "بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور اللہ کے رسول کو جلا وطن کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا؟ انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بشرطیکہ تم ایمان رکھتے ہو۔ ان سے خوب لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔"

مطلب یہ ہے کہ دفاعی جہاد اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب دشمن مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ ان کی عبادات اور دیگر دینی فرائض ادا نہ کرنے دیں۔

**7۔ اقدامی جہاد:-** اشاعتِ دینِ حق کے سلسلے میں ایک ایسی رکاوٹ بھی ہے جس کا تعلق غیر مسلم حلقوں سے ہے۔ وہ یہ کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو پیش نہ کرنے دیا جائے یا غیر مسلم لوگوں پر ایسا اجتماعی نظام مسلط رکھا جائے کہ جس کے ہوتے ہوئے انہیں اسلام کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ گو یہ اسلام کے خلاف اتنا جارحانہ فعل نہیں ہے تاہم اشاعتِ دین کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جسے بزورِ شمشیر ختم کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلہ میں دو باتیں ذہن میں بالکل صاف رہنی چاہئیں۔ (۱) اقدامی جہاد کا یہ مطب ہرگز نہیں کہ غیر مسلموں کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں حکم فرما دیا ہے: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" یعنی "دین کے معاملے میں زبردستی ہرگز جائز نہیں ہے"

(۲) نہ ہی ایک قوم کو آقا اور دوسری کو غلام بنانے کی مہم ہے بلکہ اس کا مقصد صرف اسلام کی ان صداقتوں کی سیاسی بالا دستی تسلیم کرانا ہے جن پر کائنات کا عادلانہ نظام قائم ہے۔

8۔ فتنہ و فساد کے خلاف جہاد:۔ دشمنانِ اسلام میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو اسلامی مملکت کے اندر منفی کاروائیوں کے ذریعے تفرقہ بازی کو فروغ دے کر فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے ملک کے اندر جاسوسی کا جال بچھاتا ہے۔ اس گروہ کے لوگ ناحق قتل و غارت کر کے امن و امان کو تباہ کرتے ہیں اور اخلاقی اقدار کو پامال کرتے ہیں۔ نقص امن پیدا کرنا ایک نہایت سنگین جرم ہے اس لئے اسلام نے ایسے عناصر کی سرکوبی کی سختی سے تاکید کی ہے تاکہ مسلمان معاشرہ دشمن کے زہریلے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے کیونکہ اس سے ہزاروں افراد تباہی و بربادی کی نذر ہو جاتے ہیں اس لیے فتنے کے سدباب کے لئے قرآن حکیم میں حکم ہے کہ: "فَاتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" (پ ۲ البقرہ ۱۹۳) ترجمہ: "ان سے جنگ کو وہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کا قائم ہو جائے" مزید فرمانِ الہی ہے "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (پ ۶ المائدہ) ترجمہ: "وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کاٹ دیئے جائیں، یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔"

9۔ عہد شکن لوگوں اور منافقین کے خلاف جہاد:۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف بھی تلوار سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جو عہد شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے امن اور بقائے باہمی کے معاہدے کرنے کے باوجود ان سے معاندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور منافقین سے بھی مسلح جہاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بظاہر مسلمان رہتے ہیں مگر باطن کے کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ملتِ اسلامیہ کے لیے خطرناک ہوتے ہیں اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: "لَا يَزِقُّونَ فِي مَوَدَّةٍ إِلَّا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا ۚ إِنَّهُمْ كَافِرٌ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ" (پ ۱۰-توبہ- ۱۰-۱۲) ترجمہ: "یہ منافق لوگ کسی مومن کے حق

میں نہ تورشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ سمجھ دار لوگوں کے لیے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کے بارے میں طعنہ زنی کرنے لگیں تو کفر کے ان پیشواؤں کے خلاف جہاد کرو۔ مزید فرمان حق تعالیٰ ہے:- ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ“ (پ ۱۰- توبہ- ۷۳) ترجمہ :- ”اے نبی! کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو کیوں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔“ منافقوں کی عادت ہوتی ہے کہ بار بار جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن میں نمایاں تضاد ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:- ”إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا إِنَّا شَهِدْنَا أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۗ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ (پ ۲۸- المنفقون- ۲۱) ترجمہ :- ”محبوب! جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو منافقت سے کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بلاشک و شبہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ بڑے کام کرتے ہیں“ منافقین کا یہ طرز عمل ایک قبیح فعل ہے جس سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے محتاط رہنے اور ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ دوستوں کے بھیس میں چھپے ہوئے یہ دشمن مسلمانوں کو گزند نہ پہنچا سکیں۔ منافق کی نمایاں علامت یہ ہے کہ وہ عہد شکن اور دغا باز ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:- ”الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۗ فَإِنَّمَا تَتَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَنُصِرْ بِهِمْ ثُمَّ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ۗ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ“ (پ ۱۰- الانفال- ۵۸ تا ۶۲) ترجمہ :- جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار عہد شکنی کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ بھی انہیں دیکھ کر لرزا نہیں، عجب نہیں کہ انہیں اس سے عبرت ہو اور اگر کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان سے معاہدہ منسوخ کر دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں فرماتا۔“

10- ظالم و جابر حکمران کے خلاف جہاد :- اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ظالم و جابر اور نفس پرست حکام کی اطاعت سے منع فرمادیا ہے جو مملکت اسلامیہ میں حیا سوز و تشدد آمیز

غیر شرعی قوانین رائج کرتے ہوں، عوام کو طبقاتی کشمکش اور فسادات میں مبتلا کرتے ہوں اور انہیں بے حیائی اور فحاشی کی طرف راغب کرتے ہوں۔ ایسے حکمرانوں کی صرف اطاعت ہی ممنوع نہیں بلکہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے: "لَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ" (پ ۱۹- الشعرا- ۱۵۲ تا ۱۵۱) ترجمہ:- "ان حاکموں کی اطاعت مت کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔" مزید فرمانِ حق تعالیٰ ہے:- "وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا" (پ ۱۵- الکہف- ۲۸) ترجمہ:- "اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جس کا حکم زیادتی پر مبنی ہے۔"

حضرت امام حسینؑ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے یزید لعین کی حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور دینِ حق کی سر بلندی کے لیے جامِ شہادت نوش کر کے جابر سلطان کے ساتھ جہاد کرنے کی درخشندہ مثال قائم کی ہے "حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ:- جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔"

### ﴿مقاصدِ جہاد﴾

اسلام میں جہاد کا مقصود صرف (۱) خدا پرستی کا فروغ (۲) اقامتِ دین (۳) تبلیغِ اسلام (۴) مظلوم کی دستگیری (۵) جارحیت کا جواب (۶) فتنہ و فساد کی بچ کئی (۷) ایمان کی پرکھ (۸) دل کی طہارت اور مومنین سے منافقین کی چھانٹی ہے۔

فرمانِ الہی ہے:- "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ" (پ ۲۶- محمد- ۳۱) ترجمہ:- "اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صابر ہے۔" مزید فرمانِ الہی ہے:- "مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَا يَكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (پ ۶- المائدہ- ۶) ترجمہ:- "اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، البتہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم احسان مانو۔" مزید فرمانِ الہی ہے:- "مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ" (پ ۳- آل عمران- ۱۷۹) ترجمہ:- "اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر بھی نہیں چھوڑے گا کہ جس حال پر تم اب ہو جب تک کہ خبیث کو طیب سے جدا نہ کر دے" یعنی جہاد سے خبیث اور طیب کی پرکھ ہو جاتی ہے۔

### ﴿جہاد کی فرضیت﴾

فقہائے اسلام نے جہاد کو فرض قرار دیتے ہوئے اس کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں:-

1- فرض عین :- اگر دشمن دارالسلام کے علاقہ پر خواہ وہ آباد ہو یا غیر آباد ہو، صحرا ہو یا پہاڑ ہو، حملہ کر دے تو اس علاقہ کے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر جہاد نہیں کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا۔

2- فرض کفایہ :- اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ دشمن کی موثر مدافعت کر رہا ہو یا مظلوم کی دادرسی اور فتنہ کی سرکوبی کی ذمہ داری نبھار رہا ہو تو یہ جہاد فرض کفایہ ہے اور دوسروں کی طرف سے بھی ادا ہوا جاتا ہے۔ جہاد کے لیے ہر حالت میں نکلنا فرض ہے کیونکہ فرمانِ حق تعالیٰ ہے کہ: "انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (پ ۱۰- التوبہ - ۴۱) ترجمہ :- "جہاد کے لیے نکلو خواہ تمہارے پاس معقول اسلحہ ہو یا نہ ہو۔ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔" فتح مکہ کے روز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :- "اب فتح مکہ کے بعد حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کی ضرورت نہیں رہی لیکن جہاد اور جہاد کی نیت برقرار رہے۔ جب بھی تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو نکل پڑو۔"

## ﴿جہاد میں کامیابی کے بنیادی اصول﴾

مندرجہ ذیل اصول جہاد میں کامیابی کی ضمانت مہیا کرتے ہیں :-

1- جنگ کے لیے تیاری :- اسبابِ جنگ یعنی آلاتِ حرب اور اسلحہ کی فراہمی اور فوجی تربیت حاصل کرنا جہاد کے لیے فرض کر دیا گیا ہے اس کے بغیر جنگ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی موقع پر بھی تیاری کے بغیر جنگ کے لیے نہیں نکلے۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے :- "وَاعِدُوا اللَّهَ وَالْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْقَهُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ إِلْيَٰكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (پ ۱۰- الانفال - ۶۰) ترجمہ :- اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جو قوت بھی تم سے بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو (جتنا اسلحہ ممکن ہو اکٹھا کر رکھو) اس طرح ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دو جو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اوروں کے دلوں میں بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں (جہاد کے لیے اسلحہ خریدنے پر) جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم کسی طرح بھی گھانٹے میں نہ رہو گے۔"

2- اللہ پر بھروسہ :- جنگ کی تیاری خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، افواج کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہوں، اسلحہ چاہے کتنا ہی موثر اور وافر کیوں نہ ہو، ایک مومن کے لیے فتح و نصرت کی ضمانت ہرگز نہیں

بلکہ اس کے لیے فتح اور نصرت کا دار و مدار محض اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور اسی کی بارگاہ سے فتح اور نصرت کا امیدوار رہتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ فرمان الہی ہے کہ: "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (پ ۴- آل عمران ۱۵۹-۱۶۰) ترجمہ:- "جب تم تم کوئی سبیل اللہ کا عزم کر چکو تو توکل اللہ پر باندھ لو، بے شک اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا؟ اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔"

**3- ثابت قدمی:-** ثابت قدمی بھی جہاد میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ:- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" (پ ۱۰- الانفال ۴۵ تا ۴۶) ترجمہ:- "اے ایمان والو! جب کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو کہ اس طرح تم بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہاری بدھی ہوئی ہو ا کھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔" مزید فرمان حق تعالیٰ ہے کہ:- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأُدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُولُوهُمْ يُؤْمِدْهُمْ ذُبْرًا لَمْ تُحِزْ فَالِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" (پ ۹- الانفال ۱۵ تا ۱۶) ترجمہ:- "اے ایمان والو! جب کافروں کے لشکر سے تمہارا سامنا ہو جائے تو انہیں پیٹھ مت دو۔ جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی چال چلنے کے لیے یا اپنی جماعت میں جانے کے لیے تو وہ اللہ کے عذاب کی طرف پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔"

**4- اتحاد:-** جنگ کے موقع پر تمام مجاہدین کا ایک دوسرے سے قول و فعل میں اتحاد بھی جنگ جیتنے کا ذریعہ ہے۔ اتحاد کا حکم اوپر گزر چکا ہے۔

**5- ذکر اللہ کی کثرت:-** دوران جنگ بھرت ذکر اللہ کا حکم اوپر گزر چکا ہے ذکر اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ مومنوں کے دل سکون اور حوصلے پاتے ہیں لیکن دشمن کے دل میں رعب اور ہیبت طاری ہوتی ہے جس سے فتح نصیب ہوتی ہے۔

**6- اطاعت امیر:-** جنگ میں امیر سپاہ کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی فتح اور نصرت کا ذریعہ

ہوتی ہے، امیر کے حکم کی نافرمانی شکست کا موجب ہوتی ہے جیسا کہ جنگِ احد میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک فرمان کو نظر انداز کرنے سے مسلمانوں کو خسار اٹھانا پڑا تھا۔

7۔ کامیابی پر مغرور نہ ہونا :- اسلام میں کامیابی پر اکرنا حرام ہے کیونکہ کامیابی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔

8۔ احکامِ الہی کی پابندی :- دورانِ جنگ اگر احکامِ الہی کو نظر انداز کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے مجاہد کو ہر وقت احکامِ خداوندی کا پابند رہنا چاہیے۔

### ﴿ آدابِ جہاد ﴾

اسلام ایک دوسرے کے حقوق کے احترام و نگہبانی کا درس دیتا ہے تاکہ کسی کے ساتھ بے جا زیادتی نہ ہو اس لیے اسلام میں قانونِ جنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تلوار اٹھانے سے اجتناب کیا جائے اور برائے باہمی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے صرف ناگزیر حالات میں جہاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لہذا جہاد بالسیف شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جہاد بالعلم، جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کر لیا جائے تاکہ خواہ مخواہ کے خون خرابے سے بچا جاسکے۔ سب سے پہلے کافروں، منافقوں اور شریکوں کو احسن طریقے سے اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ اگر کوئی شخص یا قوم یا معاشرہ برائیوں سے تائب ہو کر امن گاہِ اسلام میں آجائے تو صورتِ احوال کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور میں اور ہر معاشرہ میں لوگوں کا ایک گروہ موجود ہوتا ہے جو مباحثوں میں الجھنے اور الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس گروہ کے افراد وعظ و نصیحت قبول نہیں کرتے بلکہ الزام تراشی، مناظرہ اور تمسخر سے اصلاح کی ہر کوشش کو سبوتاژ کرتے رہتے ہیں اس لیے ان کی ہٹ دھرمی سے کبھی بھی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس قسم کے لوگ اگر اسلام قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان پر جزیہ عائد کر دیا جائے۔ اگر وہ جزیہ دینا قبول کر کے اسلام کی بالادستی قبول کر لیں تو تبلیغِ اسلام کی راہ کھل جائے گی اور وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے میں آزاد ہو جائیں گے، اگر وہ جزیہ دینے پر رضامند نہ ہوں اور ہر صورت میں اسلام کا راستہ روکنے پر بضد ہوں تو پھر مسلح جہاد کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ اس صورت میں اگر جہاد بالسیف نہ کیا جائے تو مفسدین کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اسلام میں جنگ کا مقصود کسی ملک کو فتح کرنا یا حریف کو ذاتی اغراض کے تحت موت کے گھاٹ اتارنا یا اس پر کاری ضرب لگانا نہیں بلکہ جارحیت اور فتنہ و فساد کا رد ہے۔ لیکن اس میں خیال رکھا گیا ہے کہ ضرورت کے تحت صرف اتنی قوت استعمال کی جائے جو ناگزیر ہو۔ لڑائی کا دائرہ صرف ان عناصر تک محدود رکھا جائے جو عملاً لڑائی میں شامل ہوں، باقی تمام امن پسند شہریوں کو جنگ کے ہلاکت خیز اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ جہاد بالسیف کو قتال فی سبیل اللہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لڑائی کے دوران کوئی نفسانی خواہش، ملک گیری کی ہوس، کسی کے خلاف جذبہ انتقام، حصولِ اقتدار کی آرزو اور شہرت و ناموری کی ہوس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی



خوشنودی اور رضا اُس کی متحرک ہوتی ہے۔

شہادت سے مطلوب و مقصود مومن

نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی

علامہ اقبالؒ

حضرت ابو موسیٰ الشعمریؓ کا بیان ہے کہ :- ” ایک شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کوئی شخص مالِ غنیمت کے حصول کی خاطر جہاد کرتا ہے، کوئی شجاعت و بہادری کے مظاہرے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی شہرت و ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اُن میں سے کس کی جنگ فی سبیل اللہ ہے؟ فرمایا :- اللہ کی راہ میں جنگ تو صرف اُس شخص کی ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جہاد کرتا ہے۔“ (بخاری)

حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :- ” لڑائی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لڑی جائے اور اُس میں اگر کسی نے اپنے امیر کی اطاعت کی، مال خرچ کیا، فساد و لوٹ مار سے گریز کیا تو اُس کا سونا جاگنا سب اجر کا مستحق ہے اور جس نے نمود و نمائش کے لیے لڑائی کی، امیر کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو برابر بھی نہ چھوٹے گا (یعنی الکا عذاب کا مستحق ہوگا)۔“ (بخاری)

## ترک جہاد کی سزا

فرمان حق تعالیٰ ہے :- اَلَا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (پ ۱۰ التوبہ ۱۹) ترجمہ :- ”اگر تم جہاد کے لئے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھالائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :- ”جب لوگ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن پر سخت ابتلاء مسلط کر دے گا اور وہ اُس سے اُس وقت تک نہ نکل سکیں گے جب تک کہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آئیں گے۔“ (مسند احمد، ابو داؤد) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سنا ہے کہ :- ”اے ثوبان! اُس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تم پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کہ تم کھانے کے برتن پر لقمے لینے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہو؟“ حضرت ثوبان نے عرض کی :- ”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول ﷺ کیا ہماری یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :- ”نہیں بلکہ تعداد میں تم زیادہ ہو گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر کمزوری اور بزدلی پیدا ہو جائے گی۔“ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی :- ”یا رسول اللہ ﷺ کمزوری سے کیا مراد ہے؟“ فرمایا :- ”تمہارا دنیا کی محبت میں گم ہو جانا اور لڑائی سے جی چرانا کمزوری ہے۔“

## ﴿اپیل﴾

عالمی اسلام کے تمام مومنین سے پُر زور اپیل ہے کہ ”عالمی تنظیم العارفین“ کے مجاہدین میں شامل ہو کر عملی طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں جان و مال کی قربانی دیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حکمرانی قائم کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.

خاکسار :-

سید امیر خان نیازی سروری قادری  
ساکن دُریے خیلانوالہ، چھدرُو روڈ، میانوالی۔

حال :-

محلہ سرگوجرہ غربی، چکوال۔

### نوٹ:

صدقات، خیرات، فطرانہ، زکوٰۃ، چرم ہائے قربانی اور  
مجاہدین کے لیے ملبوسات،

## عالمی تنظیم العارفین

کے مجاہدین کو دے کر دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہم کنار ہوں۔



رابطہ کے لیے

# عالمی تنظیم العارفین

کے درج ذیل دفاتر سے رجوع کریں۔

دربار عالیہ حضرت مخی سلطان ماہو صاحب  
ضلع جھنگ۔ فون نمبر: (320594) 0475

مرکزی دفتر

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

محسن پور انڈیا تحصیل میں چٹوں ضلع خانیوال  
فون: (06901) 440467

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

مین بازار علیہ ضلع خانیوال۔ فون: (06901) 440157

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

سروی خوسر، پیر حسین۔ ڈیرہ اسماعیل خان۔ فون: (0961) 776001

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فیصل کالونی، نزد پرانی چوکی، پلہ ننگ روڈ، چکوال۔ فون: (0473) 2958

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

محمد الودخان معرفت مشرا لیکچرر، مین بازار، اٹک۔

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

زینت پور، ڈگری سون، ضلع خوشاب۔

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

بندر کالونی روڈ، ڈگری، محبت اسلامیہ ہائی اسکول، ٹون۔ (0693) 64016

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

حکیم اعظم، ایس۔ اقبال کولہ مارکیٹ۔ فون: (0693) 64016

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

ریجنل دفتر، نزد پیر پھول، جی۔ ایل۔ سکر، گڑھی، ڈیرہ اسماعیل خان۔

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (71325) 813133

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

پال روڈ، گلہ پال، وال، محمد خالد پبلو، سکر، گڑھی، ڈیرہ اسماعیل خان۔

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (0431) 231906

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

محکمہ تعلیم، نزد پیر پھول، جی۔ ایل۔ سکر، گڑھی، ڈیرہ اسماعیل خان۔

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (0541) 640013

● مرکزی ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

عقب سنی ایسٹ فیکٹری، داروہ والا، لاہور۔ فون: (042) 6553255

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

نزد سلطان ہسپتال، جہڑ لکاپ، فون: (0454) 720943

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

جامع مسجد مبارک، صدر نزدی آئی اے سینٹر، کراچی۔

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (021) 511401

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (051) 294055

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

دوران پلازہ، جوہلیاں روڈ، نزد جنرل ایس سینڈ، ایٹک لار۔

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (0992) 333347

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

ڈیپے والا، گلور کوٹ، ضلع بھکر۔

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (0459) 7219

● ضلعی دفتر: عالمی تنظیم العارفین

نزد چچی ڈگری، شاہرہ، پشاور۔

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

گھاٹ بان سب، پکیر الیو، کب، سکر، 2 اقبال سہا، پری پور، ڈیرہ اسماعیل خان۔

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

فون: (0742) 420021

● دفتر: عالمی تنظیم العارفین

محمد خالد حسین، محکمہ صاحب، گوٹہ فقیر عبدالرزاق، نزد پیر پھول، جی۔ ایل۔ سکر، گڑھی، ڈیرہ اسماعیل خان۔